

غیر امتیازی سلوک کے بارے میں امریکی محکمہ زراعت کا بیان

ایف این ایس کے غذائیت میں امداد کے دوسرے تمام پروگراموں کے لیے، ریاستی یا مقامی ایجنسیوں، اور ان کے ذیلی اداروں کو، غیر امتیازی سلوک کا مندرجہ ذیل بیان پوسٹ کرنا چاہیے۔

شہری حقوق کے وفاقی قانون اور امریکی محکمہ زراعت (USDA) کے شہری حقوق کے ضابطوں اور پالیسیوں کی رو سے، امریکی محکمہ زراعت، اس کی ایجنسیوں، دفاتر، ملازمین اور اداروں کے لیے جو امریکی محکمہ زراعت کے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں یا ان کا انتظام کرتے ہیں، نسل، رنگ، قومی تشخص، جنس، معذوری، عمر، یا ماضی میں شہری حقوق کی سرگرمی میں حصہ لینے پر جوابی یا انتقامی کارروائی کے طور پر، امریکی محکمہ زراعت کے زیر انتظام یا اس کی مالی اعانت سے چلنے والے کسی بھی پروگرام یا سرگرمی میں امتیازی سلوک کرنا ممنوع ہے۔

معذوریوں والے افراد کو جنہیں پروگرام کے بارے میں معلومات کو سمجھنے کے لیے ابلاغ کے متبادل ذرائع درکار ہیں (جیسے بریل، بڑے حروف، آڈیو ٹیپ، اشاروں کی امریکی زبان، وغیرہ)، انہیں اس ایجنسی (ریاستی یا مقامی) سے رابطہ کرنا چاہیے جہاں انہوں نے امدادی سہولتوں کے لیے درخواست دی تھی۔ ایسے افراد جو بہرے ہیں، جنہیں کم سنانی دینا ہے یا جنہیں بولنے میں کوئی معذوری ہے، وہ امریکی محکمہ زراعت سے فیڈرل ریلے سروس کے ذریعے (800) 877-8339 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، پروگرام کے بارے میں معلومات دوسری زبانوں میں فراہم کی جا سکتی ہیں۔

پروگرام کے بارے میں امتیازی سلوک کی شکایت درج کرانے کے لیے، [USDA Program Discrimination](#)، [Complaint Form](#)، (AD-3027) مکمل کیجیے جو آن لائن [How to File a Complaint](#) پر اور امریکی محکمہ زراعت کے کسی بھی آفس میں دستیاب ہے، یا امریکی محکمہ زراعت کو خط لکھیے اور اس خط میں وہ تمام معلومات فراہم کیجیے جن کی درخواست فارم میں کی گئی ہے۔ شکایت کا فارم حاصل کرنے کے لیے، فون نمبر - (866) 632 پر کال کیجیے۔ اپنے مکمل شدہ فارم یا خط کو امریکی محکمہ زراعت کو اس طرح بھیج دیجیے:

(1) ڈاک سے بھیجنے کا پتہ

U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;

(2) یا اس نمبر پر فیکس بھیجیے: (202) 690-7442

(3) ای میل بھیجنے کا پتہ: program.intake@usda.gov

اس ادارے میں سب کو برابر کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔